

my when
belong
circled
rales
widened
tense,
on we
d a
t:
on the
the meal
is
independ
no-m
transiti
e, added
N virtur
be a com
per, sit
the w
Semi colons can also be used in
of P.S., or with lists of
that they contain commas.
The delivery included more
cinnamon, caramel, and off
staples and salt.

10:38 ④ 36

Paragraph 1

تدرستی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آدمی جب تک تدرست رہتا ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ جب کوئی معمولی بیماری بھی اسے آکر گھیر لے تو اس کی قدر معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اثر قبول کرتا ہے۔ تدرستی ہو تو کھانے پینے، چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے۔ صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مذہ نہیں آتا۔ جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں ان کی زندگی خود ان کے اور ان کے دوسرے متعلقین کے لئے وباں جان بن جاتی ہے۔

English Translation:

Health is a great blessing but man does not value it as long as he is healthy. When he catches a minor disease, he realizes its worth. If there is a pain in any part of the body, the whole body feels its presence. If a man is healthy, he enjoys eating, drinking,

30' DEC 5 '11 S.V.O. 6513000 350 ✓ vels

Semicolons can also be used with list
of lists, or with lists of things
that contain commas.

The delivery included sweets like
butterscotch, caramel, and toffee;
spices like cinnamon, ginger, and nutmeg
and baking staples like flour,
baking powder, and salt.

Translation

Health is huge blessing but man
until lives healthful, does not give
importance to this blessing. When
any trivial disease encircles him
then ~~not~~ its significance knows.
If any part of the body is in
pain then whole body takes suitable
influence. If health has (had) then
reconsider eating, walking, and working.
If health be distort then anything
is not give ~~of~~ amusement, which
people usually lives ill, their life
for himself and is ^{become} troublesome
for their other kins.